

Chapters 101-114

Chapter 101: Al-Qari`ah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

[101:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[101:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

الْقَارِعَةُ ۝۲

[101:2] The great Calamity!

[101:2] (خوابِ غفلت سے جگانے والی) بولناک آواز۔

مَا الْقَارِعَةُ ۝۳

[101:3] What is the great Calamity?

[101:3] وہ بولناک آواز کیا ہے؟

وَمَا أَذْرِبُكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝۴

[101:4] And what should make thee know what the great Calamity is?

[101:4] اور تجھے کیا سمجھائے کہ وہ بولناک آواز کیا ہے؟

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ ۝۵

[101:5] The day when mankind will be like scattered moths,

[101:5] جس دن لوگ پراگندہ ٹڈیوں کی طرح ہو جائیں گے۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝۶

[101:6] And the mountains will be like carded wool.

[101:6] اور پہاڑ ڈھنکی ہوئی اُون کی طرح ہو جائیں گے۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝۷

[101:7] Then, as for him whose scales are heavy,

[101:7] پس وہ جس کے وزن بھاری ہوں گے۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٨

[101:8] He will have a pleasant life.

[101:8] تو وہ ضرور ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝٩

[101:9] But as for him whose scales are light,

[101:9] اور وہ جس کے وزن ہلکے ہوں گے۔

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝١٠

[101:10] Hell will be his *nursing* mother.

[101:10] تو اُس کی ماں ہاویہ ہوگی۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝١١

[101:11] And what should make thee know what that is?

[101:11] اور تجھے کیا سمجھائے کہ یہ کیا ہے؟

نَارٍ

نَارٍ حَامِيَةٍ ۝١٢

[101:12] *It is* a burning Fire.

[101:12] ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔

Chapter 102: Al-Takathur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝١

[102:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[102:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝٢

[102:2] Mutual rivalry in *seeking worldly* increase diverts you from God

[102:2] تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے۔

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٣

[102:3] Till you reach the graves.۔ [102:3] یہاں تک کہ تم نے مقبروں کی بھی زیارت کی۔

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

[102:4] Nay! you will soon come to know.

[102:4] خبردار! تم ضرور جان لو گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

[102:5] Nay again! you will soon come to know.

[102:5] پھر خبردار! تم ضرور جان لو گے۔

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٦﴾

[102:6] Nay! if you only knew with certain knowledge,

[102:6] خبردار! اگر تم یقینی علم کی حد تک جان لو۔

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٧﴾

[102:7] You will surely see Hell *in this very life*.

[102:7] تو ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٨﴾

[102:8] Aye, you will surely see it with the eye of certainty.

[102:8] پھر تم ضرور اُسے آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے۔

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

[102:9] Then, on that day you shall be called to account about the *worldly* favours.

[102:9] پھر اس دن تم ناز و نعم کے متعلق ضرور پوچھے جاؤ گے۔

Chapter 103: Al-`Asr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾

[103:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[103:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

وَالْعَصْرِ ۝۱

[103:2] By the *fleeting* Time,

[103:2] زمانے کی قسم۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝۳

[103:3] Surely, man is in a *state of loss*,

[103:3] یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۴

[103:4] Except those who believe and do good works, and exhort one another to accept truth, and exhort one another to be steadfast.

[103:4] سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔

Chapter 104: Al-Humazah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

[104:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[104:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۲

[104:2] Woe to every backbiter, slanderer,

[104:2] ہلاکت ہو ہر غیبت کرنے والے سخت عیب جو کے لئے۔

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۳

[104:3] Who amasses wealth and counts it time after time.

[104:3] جس نے مال جمع کیا اور اس کا شمار کرتا رہا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝۴

[104:4] He thinks that his wealth will make him immortal.

[104:4] وہ گمان کیا کرتا تھا کہ اُس کا مال اُسے دوام بخش دے گا۔

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٥﴾

[104:5] Nay! he shall surely be cast into the crushing punishment.

[104:5] خبردار! وہ ضرور حُطَمَہ میں گرایا جائے گا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٦﴾

[104:6] And what should make thee know what the crushing punishment is?

[104:6] اور تجھے کیا بتائے کہ حُطَمَہ کیا ہے۔

نَارَ اللَّهِ الْمَوْقَدَةِ ﴿٧﴾

[104:7] It is Allah's kindled fire,

[104:7] وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی۔

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٨﴾

[104:8] Which rises over the hearts.

[104:8] جو دلوں پر لپکے گی۔

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴿٩﴾

[104:9] It will be closed in on them

[104:9] یقیناً وہ ان کے خلاف بند رکھی گئی ہے۔

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿١٠﴾

[104:10] In the form of extended columns.

[104:10] ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر لمبے کئے گئے ہیں۔

Chapter 105: Al-Fil

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

[105:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[105:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝٢

[105:2] Hast thou not seen how thy Lord dealt with the People of the Elephant?

[105:2] کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ۝٣

[105:3] Did He not cause their plan to miscarry?

[105:3] کیا اُس نے اُن کی تدبیر کو رائیگاں نہیں کر دیا؟

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٤

[105:4] And He sent against them swarms of birds,

[105:4] اور اُن پر غول در غول پرندے (نہیں) بھیجے؟

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝٥

[105:5] Which ate their carrion, striking them against stones of clay.

[105:5] وہ اُن پر کنکر ملی خشک مٹی کے ڈھیلوں سے پتھراؤ کر رہے تھے۔

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِيَ ۝٦

[105:6] And thus made them like broken straw, eaten up.

[105:6] پس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

Chapter 106: Al-Quraish

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝١

[106:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[106:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

لَا يُلْفِ قُرَيْشٍ ۝٢

[106:2] Because of the attachment of the Quraish —

[106:2] قریش میں باہم ربط پیدا کرنے کے لئے۔

الْفِهِمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٣

[106:3] His making them attached to *their* journey in winter and summer —

[106:3] (ہاں) اُن میں ربط بڑھانے کے لئے (ہم نے) سردیوں اور گرمیوں کے سفر بنائے ہیں۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٤

[106:4] They should worship the Lord of this House,

[106:4] پس وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ ۝٥

ع
٣١

وَأَمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝٥

[106:5] Who has fed them against hunger, and has given them security against fear.

[106:5] جس نے انہیں بھوک سے (نجات دیتے ہوئے) کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔

Chapter 107: Al-Ma`un

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝١

[107:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[107:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ ۝٢

[107:2] Hast thou seen him who rejects religion?

[107:2] کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝٣

[107:3] That is the one who drives away the orphan,

[107:3] پس وہی شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝٤

[107:4] And urges not the feeding of the poor.

[107:4] اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٥﴾

[107:5] So woe to those who pray,

[107:5] پس اُن نماز پڑھنے والوں پر ہلاکت ہو۔

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٦﴾

[107:6] But are unmindful of their Prayer.

[107:6] جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٧﴾

[107:7] They like to be seen of men,

[107:7] وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٨﴾

[107:8] And withhold *legal* alms.

[107:8] اور روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں بھی (لوگوں سے) روکے رکھتے ہیں

Chapter 108: Al-Kauthar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

[108:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[108:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿٢﴾

[108:2] Surely We have given thee abundance of good;

[108:2] یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٣﴾

[108:3] So pray to thy Lord, and offer sacrifice.

[108:3] پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی دے۔

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٤﴾

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٤﴾

[108:4] Surely, it is thy enemy who is without issue.

[108:4] یقیناً تیرا دشمن ہی ہے جو اُتر رہے گا۔

Chapter 109: Al-Kafirun

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

[109:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[109:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۝۲

[109:2] Say, 'O ye disbelievers!

[109:2] کہہ دے کہ اے کافرو!

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝۳

[109:3] 'I worship not that which you worship;

[109:3] میں اُس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝۴

[109:4] 'Nor worship you what I worship.

[109:4] اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبِدْتُمْ ۝۵

[109:5] 'And I am not going to worship that which you worship;

[109:5] اور میں کبھی اُس کی عبادت کرنے والا نہیں بنوں گا جس کی تم نے عبادت کی ہے۔

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝۶

[109:6] 'Nor will you worship what I worship.

[109:6] اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے بنو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

۝۷

لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِيَ دِیْنِ ۝۷

[109:7] 'For you your religion, and for me my religion.'

[109:7] تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔

Chapter 110: Al-Nasr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

[110:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[110:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝۲

[110:2] When the help of Allah comes, and the victory,

[110:2] جب اللہ کی مدد اور فتح آنے لگی۔

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ

دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝۳

[110:3] And thou seest men entering the religion of Allah in troops,

[110:3] اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۝۴
اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝۵

[110:4] Glorify thy Lord, with *His* praise, and seek forgiveness of Him. Surely He is Oft-Returning *with compassion*.

[110:4] پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ (اس کی) تسبیح کر اور اُس سے مغفرت مانگ۔ یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

Chapter 111: Al-Lahab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

[111:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[111:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۝۲

[111:2] Perished be the two hands of Abu Lahab, and he will perish.

[111:2] ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔

مَا آغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ

[111:3] His wealth and what he has earned shall avail him not.

[111:3] اُس کے کچھ کام نہ آیا اُس کا مال اور جو کچھ اُس نے کمایا۔

سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَتْ لَهَبًا ۖ

[111:4] Soon shall he enter into a blazing fire;

[111:4] وہ ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۖ

[111:5] And his wife too, who goes about slandering.

[111:5] اور اُس کی عورت بھی، اس حال میں کہ وہ بہت ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی۔

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۖ

[111:6] Round her neck shall be a halter of twisted palm-fibre.

[111:6] اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا مضبوطی سے بٹا ہوا رسہ ہوگا۔

Chapter 112: Al-Ikhlās

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

[112:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[112:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

[112:2] Say, 'He is Allah, the One;

[112:2] اُو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

[112:3] 'Allah, the Independent and Besought of all.

[112:3] اللہ بے احتیاج ہے۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

[112:4] 'He begets not, nor is He begotten;

[112:4] نہ اُس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔

ع
٢٧

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

[112:5] 'And there is none like unto Him.'

[112:5] اور اُس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا

Chapter 113: Al-Falaq

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

[113:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[113:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

[113:2] Say, 'I seek refuge in the Lord of the dawn,

[113:2] تُو کہہ دے کہ میں (چیزوں کو) پہاڑ کر (نئی چیز) پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

[113:3] 'From the evil of that which He has created,

[113:3] اُس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝

[113:4] 'And from the evil of the night when it overspreads,

[113:4] اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝

[113:5] 'And from the evil of those who blow into knots to undo them,

[113:5] اور گڑبوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔

ع
٢٨

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

[113:6] 'And from the evil of the envier when he envies.'

[113:6] اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

Chapter 114: Al-Nas

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

[114:1] In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.

[114:1] اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ②

[114:2] Say, 'I seek refuge in the Lord of mankind,

[114:2] تُو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔

مَلِكِ النَّاسِ ③

[114:3] 'The King of mankind,

[114:3] انسانوں کے بادشاہ کی۔

اِلٰهِ النَّاسِ ④

[114:4] 'The God of mankind,

[114:4] انسانوں کے معبود کی۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفٰیصِ ⑤

[114:5] 'From the evil of the sneaking whisperer,

[114:5] بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

الَّذِیْ یُوسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑥

[114:6] 'Who whispers into the hearts of men,

[114:6] وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔

ع
۳۹

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑦

[114:7] 'From among the Jinn and mankind.'

[114:7] (خواہ) وہ جنوں میں سے ہو (یعنی بڑے لوگوں میں سے) یا عوام الناس میں سے۔
